



## سوال

(39) اس سوال کا عنوان اور کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اندھا، لولایا پجوروں، ڈاکوؤں یا سخت غریب گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو دس دن کی زندگی دی جاتی ہے کسی کو سینکڑوں دنوں کی۔ اگر ایک شخص نیک خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس کی نیک صحبت، نیک تعلیم، نیک کاموں کے وسائل ہم پہنچانے جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے برعکس ہر دو کی آزمائش یکساں کیسی؟ اگر ایک حالت میں پیدائش و پرورش ہو، تو کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ جزاکم اللہ خیراً

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اسلام کو دیگر مذاہب پر کئی طرح کی فضیلت ہے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کا اعجاز کا دعویٰ ہے اس کے دعویٰ کو آج تک کسی نے نہیں توڑا۔ دوسرے اسلام میں پورے احکام ہیں اسلام کے سوا کسی مذہب میں پورے احکام نہیں۔ مثلاً وید میں رشتوں کی بابت کوئی تفصیلی احکام نہیں کہ کونسا کرنا چاہیے اور کونسا نہ کرنا چاہیے۔ بہت سی کتب تحریرت ہو چکی ہیں قرآن مجید بدستور قائم ہے قرآن کو خدا نے سینوں میں جگہ دی ہے، دوسری کتب صرف کاغذات میں ہیں اور لٹکڑا لولا ہونے یا کسی اور مصیبت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ اور مال و دولت اور صحت و تندرستی اگرچہ ظاہر میں نعمت ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ بھی آزمائش ہیں کہ بندہ مال و دولت وغیرہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا خدا سے۔ اور کیا اللہ کے رستے میں اس کو خرچ کرتا ہے یا عیاشی میں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ حَيْثُ وَاٰرَظْتُمْ ۖ وَرِزْقًا كَثِيْرًا ۗ  
--- سورة الاعراف ۱۶۸

”اور بد حالوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آجائیں“

اور جیسے انسان کا قصدا راہ ہوتا ہے اسی کے موافق اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

فَاَمَّا مَنۡ اٰءَظَمَ النَّوْۤىۡ وَ تَقٰى ۙ وَ صَدَقَ ۙ ۙ رٰۤىۡ نٰۤیۡۙ ۙ فَنَسِيْنٰہُ ۙ لِاٰیٰتِ رَبِّہٖ ۙ ۙ  
--- سورة الليل

”جس نے دیا (اللہ کی راہ میں) اور ڈرا (اپنے رب سے)۔ اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا۔ تو ہم بھی اس کو آسان رستے کی سہولت دیں گے“

جیسی جیسی طبائع ہوتی ہیں ویسی ویسی آزمائش ہوتی ہے کسی کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے کسی کو حکومت دے۔ کر کسی کو غربت وغیرہ کے ساتھ جیسے مختلف جماعتوں کے لڑکوں



کو مختلف سوالات دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بندوں کی مختلف حالتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔

ہذا ما عنہم والی علم بالصواب

## فتاویٰ اہلحدیث

کتاب الایمان، مذاہب، ج 1 ص 104

محدث فتویٰ